


Sr. No.	Date of order/ proceedings	Order or other proceedings with signature of Judge/ Magistrate
1	25.01.2016	<p data-bbox="613 406 1414 488" style="text-align: center;"><b>KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, CAMP COURT, D.I.KHAN.</b></p> <p data-bbox="621 575 1438 692" style="text-align: center;">Service Appeal No. 907/2014 Muhammad Ahsan Versus the Provincial Police Officer, Peshawar etc.</p> <p data-bbox="760 782 954 817" style="text-align: center;"><b><u>JUDGMENT</u></b></p> <p data-bbox="613 867 1479 1153"> <u>PIR BAKHSH SHAH, MEMBER-</u>. Counsel for the appellant (Mr. Muhammad Asmail Alizai, Advocate) and Government Pleader (Mr. Farhaj Sikandar) with Mushtaq Ahmad, S.I (Legal) for the respondents present. </p> <p data-bbox="613 1248 1479 1951"> 2. The appellant was appointed as Constable in the Police Department in the year, 2007. He was removed from service vide impugned order dated 23.05.2009 on the ground of his absence from duty w.e.f 31.12.2007 to 01.4.2008 and again from 09.4.2008 onward. His departmental appeal was also rejected on 01.4.2013, copy of which was delivered to him on 30.5.2013, hence the instant appeal under Section 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act, 1974. </p> <p data-bbox="613 2053 1300 2088"> 3. Arguments heard and record perused. </p> <p data-bbox="613 2195 1479 2407"> 4. Contention of the learned counsel for the appellant is that in a case of Suicide attack reported vide FIR No. 341 dated 15.7.2007 P.S Cantt. D.I.Khan, the </p>

appellant got injured and suffered from traumatic and psychological effect for which he regularly took treatment. That the respondent department instead of having sympathy with the appellant treated him absent from duty and initiated disciplinary proceedings against him as a result whereof he was removed from service. The learned counsel further stated that the entire departmental proceedings being defective for the reason that no charge sheet, show cause notice were served on the appellant nor he was associated in the proceedings of the enquiry. It was further submitted that no opportunity of defence has been provided to the appellant. He also stressed that his service appeal is within time.



After hearing learned counsel for the appellant and learned Government Pleader and perusal of the record, it was observed that the matter of illness of the appellant has not been at all taken into account by the enquiry officer. Further no opportunity of personal hearing was provided to the appellant even by the appellate authority. For the said reasons, it was necessary that the appellant should have been given opportunity of personal hearing at least by the appellate authority. The Tribunal is constrained to set aside the impugned order dated 01.04.2013 of the appellant authority. Resultantly the order dated 01.04.2013 is set aside and the case is remanded to the


appellate authority to give full opportunity of hearing to the appellant and to decide his departmental appeal afresh on merits strictly in accordance with law, within a period of one month after receipt of this judgment. The appeal is disposed off accordingly. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED

25.01.2016.



(ABDUL LATIF)  
MEMBER



(PIR BAKHSH SHAH)  
MEMBER  
(Camp Court, D.I.Khan)

31.3.2015

Appellant present in person and Mr Farhaj Sikander, GP for respondents present. Rejoinder received and placed on file. To come up for arguments on 26.5.15. at Camp Court D.I.Khan..

MEMBER  
Camp Court, D.I.Khan

26.05.2015

Appellant in person and Mr. Farhaj Sikandar, GP for the respondents present. Due to general strike of the legal fraternity, counsel for the appellant is not available. To come up for rejoinder and arguments at camp court, D.I.Khan on 27.07.2015.

~~camp court, D.I.Khan~~

MEMBER  
Camp court, D.I.Khan

27.07.2015

Appellant present in person and Mr. Farhaj Sikandar, GP for the respondents present. Appellant requested for time to file rejoinder. To come up for the same on 27-10-2015 at camp court, D.I.Khan.

MEMBER  
Camp Court, D.I.Khan

27.10.2015

Appellant with counsel and Mr. Farhaj Sikandar, GP for the respondents present. The Bench is incomplete, therefore, case to come up for rejoinder and arguments at camp court, D.I.Khan on 25-1-16.

MEMBER  
Camp court, D.I.Khan

23-6-14 Appellant with counsel present. A.G.P. for respondents present and requested for adjournment. To come up for reply on 30-9-14 at Camp Court, D.I.K.

Member  
Camp Court, D.I.K.

30-9-14. Counsel for the appellant and G.P. for Respondents present. Case adjourned to 29-12-2014 for written reply at Camp Court, D.I.Khan.

Legal  
Registrar  
Camp Court, D.I.K.

29-12-14. Appellant in person present. No one is present on behalf of respondents. Case adjourned to 27-1-2015 for reply at Camp Court, D.I.K.

Legal  
Registrar  
Camp Court, D.I.K.

27-1-2015. Appellant with counsel and G.P. for respondents present. Written reply received, copy thereof is handed over to appellant for rejoinder, if any. To come up for rejoinder on 31-3-2015 at Camp Court, D.I.Khan

Member  
Camp Court, D.I.K.

7-1-2014. Tour to Camp Court, D.I. Khan has been resumed vide office order dated 23-12-13. Therefore, this case is fixed <sup>on</sup> 28-1-2014 at Camp Court, D.I. Khan. Notice be issued to the appellant/counsel accordingly, for preliminary hearing.

Legal Registrar

27.01.2014

Appellant with counsel present and heard. The learned counsel argued that appellant has not been treated in accordance with law. Points raised in the memo of appeal, would require <sup>SR to all past legal systems.</sup> consideration. Admit/Process fee and Security with in 10 days.

Thereafter, notices be issued to respondents for submission of written reply on 25-03-2014 at Camp Court, D.I. Khan.

MEMBER  
Camp Court D.I. Khan

25-3-14. Appellant in person and G.P. for respondents present. G.P. is directed to ensure attendance of respondents and submission of reply on next date. To come up for written reply on 23-6-14 at Camp Court, D.I. Khan.

Member  
Camp Court D.I. Khan




Appellant defaulted  
of Process, being Security,  
Rs. 400/- Bank Receipt  
attached with file

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 907/2013


S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	20/05/2013	<p>The appeal of Mr. Muhammad Ahsan re-submitted today by Mr. Muhammad Ismail Alizai Advocate, may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2	27-8-2013	<p>This case is entrusted to Touring Bench D.I.Khan for preliminary hearing to be put up there on <u>24-9-2013</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
3-	24-9-13.	<p><i>Counsel for the appellant present and requested for adjournment. To come up for preliminary hearing on 26-11-2013 at Camp Court, D.I.Khan.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Member</i> Camp Court, D.I.Khan.</p>
4-	26-11-2013.	<p><i>Tour to D.I.Khan has been discontinued vide order dated 31-10-2013. Therefore, notices be issued to the appellant &amp; his counsel on 14-1-2014 at Peshawar for preliminary hearing,</i></p> <p style="text-align: right;"> Registrar.</p>

The appeal of Mr. Muhammad Ahsan Ex-Constable No.2587/FRP, received today i.e. on 30/04/2013 is incomplete on the following scores which is returned to the counsel for the appellatant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Copy of reply to Show Cause Notice mentioned in para-5 of the memo of appeal is not attached with the appeal which may be placed on it.
- 2- One copy/set of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 715 /S.T,

Dt. 30/04 /2013.

  
REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

MR. MUHAMMAD ISMAIL ALIZAI  
ADV. HIGH COURT D.I.KHAN.

*Received to day on  
May 10<sup>th</sup>, 2013  
Sir,*

*The completion/rectification, as required, has been carried out in the following manner.*

1. *Mention of "reply to Show Cause Notice" contained in para-5 of the memo of appeal was an inadvertent typographical mistake which has been rectified and initialled in token of correction.*
2. *One set/copy of appeal is added herewith.*

*Re. forwarded for kind perusal and further proceedings. It is requested that the petition may kindly be included in the list of ensuing cases to D.I.Khan in the month of May-2013.*

  
Muhammad Ismail Alizai  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan



**BEFORE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. 907 /2013.

Muhammad Ahsan, Ex.PC / FRP No.2587. Appellant.

Versus

Provl: Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, and others. Respondents.

Service Appeal

I N D E X

<u>S.No.</u>	<u>Description of Documents</u>	<u>Annexure</u>	<u>Page(s)</u>
1.	Petition with Grounds of Appeal & affidavit.	--	02 — 05
2.	Copies of FIR; Med; Records etc.	A	06 — 11
3.	Copies of Inq:Rep/FSC Notice/Order.	B, C, D.	12 — 15
4.	Copies of Deptl: appeal / Order thereon.	E & F	16 — 19
5.	Vakalat-Nama	—	20

Dated: 27.7 2013

*Muhammad Ahsan*  
(Muhammad Ahsan) Appellant  
Through Counsel

*Muhammad Ismail Alizai*  
(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court, DIKhan.

Muhammad Ismail Alizai  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

**BEFORE SERVICE TRIBUNAL, KHY:PAKHTUNKHWA,PESHAWAR.**

Service Appeal No:.....907...../2013.

SI. W. P. Peshawar  
Khyber Pakhtunkhwa  
No. 858  
Dated 30/4/13

Muhammad Ahsan,  
Ex. Constable No.2587/ FRP, D.I.Khan.  
S/o Haji Muhammad Sadiq, R/o Shah Jehan Town, Police Station Cantt,  
Dera Ismail Khan.

(Appellant)

Versus

1. The Provincial Police Officer (IGP), KPK,  
Central Police Office, Peshawar.
2. Additional Inspector General of Police / Commandant, FRP,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar,
3. Superintendent of Police , FRP, D.I.Khan Range, D.I.Khan.

(Respondents)

*Note: The addresses given above are sufficient for the purpose of service.*

Filed to-  
[Signature]  
30/4/13

**SERVICE APPEAL AGAINST ORDER DTD 23.05.2009 WHEREBY THE APPELLANT WAS REMOVED FROM SERVICE BY RESPDT: NO. 3, AND FINALL ORDER No: 2356-57/EC DATED 1.04.2013 OF RESPDT: NO.2 WHEREBY DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT WAS REJECTED.**

[Signature]


Respectfully Sheweth: -

Co-submitted to-  
and filed.

The appellant very humbly submits as under: -

[Signature]  
20/5/13

**BRIEF FACTS:**

1. That the petitioner was inducted in Police Department / FRP as Constable during the year 2007 at D.I.Khan. Prior to the implementation of the impugned orders the petitioner had been serving under Respondent No.3 while Respondent No.2 is the appellate authority and Respondent No.1 commands overall authority in respect of the parties, thus all are necessary party to the lis.
2. That the appellant always striven hard to discharge and fulfill the duties and tasks assigned with due diligence and dedication. Service record of the appellant is otherwise unblemished, clean and devoid of any adverse marking since nothing of the sort has ever been conveyed to the appellant in this respect.
3. That during July 2007 the appellant fell victim to a terrorist activity and got injured in a bomb blast at Police Lines, D.I.Khan wherein many other police officials got injured and embraced martyrdom. The incident left serious physical and mental repercussions on the appellant who had to seek persistent medical care and advice thus remained under treatment for a protracted period of time. Copies of relevant records placed at Annex-A.
4. That while ignoring the physical and mental conditions of the appellant he was subjected to departmental action by the authority on the allegation of absence from duties. The matter was assigned for inquiry to the then DSP/Paroa Circle, D.I.Khan who while pushing the proceedings in a slipshod manner, conveyed complicity on part of the appellant in his inquiry report yet without any basis, foundation and sustainable material or evidence brought on records in any manner and recommended award of punishment to the appellant.
5. That the matter having put-up for consideration to the authority i.e respondent No.3 culminated in award of punishment to the appellant of removal from service again after a cursory proceedings conducted in the name of Final Show Cause Notice, though never served. Copies of Inquiry Report, final show cause notice ~~\_\_\_\_\_~~ & Order of SP/FRP,  D.I.Khan i.e. respondent No.3, procured by the appellant through his source are attached herewith at Annexes B, C & D, respectively. The respondents have refused to furnish any certified copy of records, including Charge-Sheet etc.
6. That on learning about the passage of an ex-parte order and aggrieved from it, the appellant moved an appeal with respondent No.1 seeking reinstatement in service on the grounds mentioned therein. The petition of appeal was assigned to Respondent No.2 for disposal however, could not find favour with respondent No.2 and was dismissed / rejected vide order dated 1.4.2013, conveyed / received to the appellant through post on 13.4.2013. Copies of appeal filed by the appellant and the order of respondent No.2 are placed herewith at Annexes E & F, respectively.



7. That left with no other remedy, the appellant approaches this Hon'ble tribunal seeking reinstatement in service with all back benefits in consequence of setting aside of the impugned orders on gracious acceptance of the instant petition on grounds hereinafter preferred.

**Grounds:**

1. That the orders passed by departmental authorities i.e respdts: No.2 & 3, impugned hereby, are discriminatory, arbitrary in nature, legally and factually incorrect, ultra-vires, void ab-initio and militate against the principles of natural justice thus are liable to be set-aside and nullified.
2. That the appellant is innocent and has been subjected to the penalty for no fault on his part. SP/FRP, DIKhan (Respondent No.3), failed to regulate the departmental inquiry in accordance with the law & procedures prescribed for the purpose and as such erred at the very out set of the proceedings thus causing grave miscarriage of justice as well as prejudice to the appellant in making his defence.
3. That it is a matter of record that the appellant has been vexed and yet twice, in clear defiance of the law and principle laid by the superior courts as well as the tribunals as could be gathered from the facts and circumstances of the case.
4. That the respondents while adjudicating in the matter of departmental proceedings and the appeal / representation of the appellant disposed off the entire matter in a slipshod manner through the non-speaking orders impugned hereby thus the award of impugned punishment is patently unwarranted, illegal, ultra-vires, nullity in law and apparently motivated for extraneous reasons and is not maintainable in law.
5. That the appellant had sufficient length of service rendered for the department. While adjudicating in the matter the departmental authorities utterly ignored not only the provisions of law on the point but the rights, too, of the appellant including fringe benefits and by imposing the harshest of the penalties in defiance of law as aforesaid, deprived the family of the appellant of its only means of earning livelihood.
6. That the orders passed by the respondents on holding of departmental proceedings including the order on award of punishment as well as the one in respect of the departmental representation / appeal as impugned hereby, have infringed the rights and have caused grave miscarriage of justice to the appellant without any lawful excuse.
7. That while ignoring the rights of the appellant guaranteed by the constitution, the departmental authorities / respondents utterly failed to adopt a proper course & to follow due procedure hence erred in disposal of

the matter in accordance with the law and rules. The impugned orders passed by SP/FRP, D.I.Khan (Respodt. No.3) and Addl:IG/Commandant, FRP i.e. (Respondent No.2) thus lack in legal sanction and therefore, are liable to be set aside in the interest of justice.

- 8. That the petition of appeal / appellant is duly supported by law and rules formulated thereunder, besides the affirmation / affidavit annexed hereto.
- 9. That this Hon'ble Tribunal is competent and has ample powers to adjudge the matter under reference/appeal.
- 10. That the counsel for the appellant may very graciously be allowed to add to the grounds during the course of arguments, if need be.

**Prayer:**

In view of the fore mentioned submissions, it is very humbly requested that the impugned order dated 23.05.2009 passed by SP/FRP, D.I.Khan and the appellate order of respondent No.2 dated 1.4.2013 may, on being declared as illegal, arbitrary, discriminatory, void ab-initio, ineffective and inoperable against the appellant, be very graciously set aside and the petitioner may in consequence thereof be very kindly reinstated in service with allowance of all back benefits. Grant of any other relief deemed appropriate by the Hon'ble Tribunal is solicited, too.

Dated: 27.4.2013

Humble Appellant,

(Muhammad Ahsan) Appellant,

Through Counsel.

(Muhammad Ismail Khan) Advocate High Court  
D.I. Khan

**AFFIDAVIT:**

Dated: 27.4.2013.

I, Muhammad Ahsan, the appellant, hereby solemnly affirm and declare on oath that contents of the petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and per the official records. Also, that nothing is willfully kept or concealed from this Hon'ble Tribunal.

Deponent.

# ابتدائی اطلاعی رپورٹ

A - موہر عدالت نمبر ۷۳

ابتدائی اطلاعی رپورٹ نمبر ۱۵۳

ضلع دیر

تعدادی

Muhammad Imail Alizai  
Advocate High Court  
Islamabad

341	تاریخ و وقت	15/7/2017
42	تعدادی	15/7/2017
1	تاریخ و وقت رپورٹ	15/7/2017
2	نام و سکونت اطلاع دہندہ مستفیض	جاوید اختر 1199
3	مختصر کیفیت مجرم (معدومہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو	معدومہ
4	جائے وقوعہ نام ملے تقانہ سے اور سمت پر اگر کوئی ذکر ملے	کھنڈا کھنڈا جانا
5	نام و سکونت مجرم	معدومہ
6	کاروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کر دینا وقت ہوا ہو تو وہ بیان کرنا	معدومہ
7	تقارن سے دریافت کی تاریخ و وقت	معدومہ

**ابتدائی اطلاع پیش کرنے والے کے حوالے سے تفصیلی بیان**

معدومہ کے متعلق کا پہلا بیان 12/8/2017ء کو ہوا جس میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ 15/7/2017ء کو اپنے گھر پر ایک شخص سے ملے جو اسے ایک آسٹریائی سفیر سے ملنے کے لیے لے گیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔

معدومہ کے متعلق کا دوسرا بیان 15/7/2017ء کو ہوا جس میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ایک شخص سے ملے جو اسے ایک آسٹریائی سفیر سے ملنے کے لیے لے گیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔

معدومہ کے متعلق کا تیسرا بیان 15/7/2017ء کو ہوا جس میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ایک شخص سے ملے جو اسے ایک آسٹریائی سفیر سے ملنے کے لیے لے گیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔

معدومہ کے متعلق کا چوتھا بیان 15/7/2017ء کو ہوا جس میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ایک شخص سے ملے جو اسے ایک آسٹریائی سفیر سے ملنے کے لیے لے گیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔

معدومہ کے متعلق کا پانچواں بیان 15/7/2017ء کو ہوا جس میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ایک شخص سے ملے جو اسے ایک آسٹریائی سفیر سے ملنے کے لیے لے گیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے بعد اسے ایک گاڑی میں لے گیا ہے۔

15/7/2017



Muhammad Ismail Ali  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

302 314-353 159  
302 314-353 159  
302 314-353 159

- 587/07
- 588/07
- 589/07
- 530/07
- 531/07
- 532/07
- 533/07
- 534/07
- 535/07
- 536/07
- 586/07
- 585/07
- 584/07
- 583/07
- 582/07
- 581/07
- 580/07
- 579/07
- 578/07
- 577/07

عبد العزیز ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد العزیز ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد الی ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 عطاء الرحمن ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 صفیر محمد ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد آصف ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد عسکری ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد ناصر ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 مسعود الرحمن ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 عثمان احمد ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 اسد فیضان الرحمن ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد رفیق ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 عبد الکریم ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 صلاح حسین ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 سعید محمد ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 انیس فیضان احمد ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 نادر حسین ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد نیاز ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد دلشاد ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر  
 محمد شفیق ولد محمد افغان قوم ڈوگر سید جو علی شکر



576/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره اول کتابخانه

575/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره دوم کتابخانه

574/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره سوم کتابخانه

573/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره چهارم کتابخانه

572/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره پنجم کتابخانه

571/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره ششم کتابخانه

556/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره هفتم کتابخانه

557/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره هشتم کتابخانه

558/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره نهم کتابخانه

559/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره دهم کتابخانه

564/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره یازدهم کتابخانه

561/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیستم کتابخانه

562/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و یکم کتابخانه

563/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و دوم کتابخانه

564/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و سوم کتابخانه

565/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و چهارم کتابخانه

566/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و پنجم کتابخانه

567/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و ششم کتابخانه

568/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و هفتم کتابخانه

569/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و هشتم کتابخانه

570/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و نهم کتابخانه

537/07

کتابخانه در مجرای فصل دوم شماره بیست و دهم کتابخانه

538/07	فہرست	43
539/07	فہرست	44
540/07	فہرست	45
541/07	فہرست	46
542/07	فہرست	47
543/07	فہرست	48
544/07	فہرست	49
545/07	فہرست	50
546/07	فہرست	51
547/07	فہرست	52

549/07	فہرست	54
550/07	فہرست	55
551/07	فہرست	56
552/07	فہرست	57
554/07	فہرست	58
555/07	فہرست	59

553/07	فہرست	60
558/07	فہرست	60

کتابخانه و اسناد  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...

تفصیل موقوفه

نام و نام خانوادگی

تفصیل موقوفه ...  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...

مستوفی و متوفی

مستوفی و متوفی ...  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...  
 شماره ثبت: 1199  
 شماره سند: 4  
 تاریخ: 1356  
 نام: ...

فصلی حسابی نے مندرجہ ذیل رقموں کو جمع کیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 فصلی حسابی نے مندرجہ ذیل رقموں کو جمع کیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 فصلی حسابی نے مندرجہ ذیل رقموں کو جمع کیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 فصلی حسابی نے مندرجہ ذیل رقموں کو جمع کیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 فصلی حسابی نے مندرجہ ذیل رقموں کو جمع کیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔

12/9/07  
 12.9.07

انگلش جوڈیشل کالج کراچی

11111	11111	11111	11111	11111	11111
59	111	1111	11111	111111	1111111

درج ذیل رقموں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 درج ذیل رقموں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 درج ذیل رقموں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 درج ذیل رقموں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔  
 درج ذیل رقموں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو مندرجہ ذیل حسابوں میں لکھ دیا ہے۔

137

انگلش جوڈیشل کالج کراچی  
 انگلش جوڈیشل کالج کراچی

(67)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
ISLAMABAD HOSPITAL  
PAKISTAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
G-8/3, ISLAMABAD


Your Ref. No. 011972

Date 13/10/2012

Our Ref.No. 113/4

To whom it may concern

It is stated that my patient Muhammad  
Ahsan s/o Muhammad Sadiq was suffering  
from post traumatic stress disorder,  
but with due course of treatment  
he is free of this psychological  
illness since 28/4/2009 to date -  
M. Ahsan is medically fit for  
any kind of Job.

  
MEDICAL OFFICER  
Pakistan Institute of Medical Sciences  
Islamabad



11

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ISLAMABAD HOSPITAL  
PAKISTAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
G-8/3, ISLAMABAD

Your Ref. No. 001432

Date 24/4/2009

Our Ref.No. 731

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is to certify that my patient  
Muhammad Ahsan S/o M. Saadiq suffered  
a post traumatic stress disorder  
secondary to a bomb blast which  
occurred in D. I. Khan, dated 22/7/2007,  
for which he was undergoing medical  
treatment, but because of his illness  
he is not able to perform his duties  
with full capability, due to repeated admission  
in P. I. M. S. hospital for his ailment

Mus  
MEDICAL OFFICER  
Pakistan Institute of Medical Sciences  
Islamabad

از دفتر DSP نبرکل پروآ، ڈیرہ اسماعیل خان

بخدمت جناب DPO صاحب ڈیرہ اسماعیل خان

نمبر P-649 مورخہ 09-05-05

عنوان: فائل رپورٹ محکمہ انکوآری بر خلاف کنسٹیبل محمد احسن نمبر 2587/FRP

ڈیرہ اسماعیل خان بابت غیر حاضری

جناب عالی!

معروض ہوں کہ فائل محکمہ کارروائی بر خلاف کنسٹیبل محمد احسن 2587/FRP ڈی آئی خان سابقہ SDPO احسان اللہ خان سے چارج میں ہی، ملاحظہ ہو کر پایا گیا کہ کنسٹیبل محمد احسن 2587/FRP دوران تعیناتی بمقام پولیس لائن مورخہ 31.12.07 تا 01.04.08 اور 09.04.08 تا حال بغیر کسی اجازت یا رخصت کے غیر حاضر ہوا جس پر 12.06.08 کو شوکار نوٹس تقسیم کیا گیا لیکن جواب نہ دیا جس پر سابقہ SP/FRP محمد اشرف خان مذکورہ کے نام چارج شیٹ اور شیمنٹ آف ایلیکشن بحوالہ نمبر 1899-1900/FRP مورخہ 29.10.08 جاری کی۔ کفایت اللہ خان SDPO ہیڈ کوارٹرز انکوآری افسر مقرر کر دیا جس نے باقاعدہ محکمہ انکوآری کا آغاز کر لیا بد قسمتی سے وہ خود کش دھماکہ میں شدید زخمی ہوئے اور انکوآری فائل مزید تعمیل کیلئے احسان اللہ خان سابقہ SDPO صاحب کو مارک ہوئی۔ احسان اللہ خان SDPO سے مجھے مل چکی ہے۔

باقاعدہ انکوآری کی تکمیل کیلئے اور آئندہ صورتحال کے بارے حقائق معلوم کرنے کیلئے میں نے ذیلیاع گواہان طلب کئے جبکہ کنسٹیبل محمد احسن 2587 بار بار طلبی کے باوجود دیدہ دانستہ حاضر نہیں آ رہا جس کو میں نے طلب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بے جا وقت کا ضیاع تصور کیا بدیں وجہ اس کی غیر حاضری میں کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔

1- محمد وسیم ولد محمد ابراہیم سکنہ شاہ جہان ٹاؤن کینٹ

2- محمد صادق وائڈ راز ان کنسٹیبل محمد احسن

3- عبدالقیوم جونیر کلرک SRC دفتر SF/FRP ڈیرہ اسماعیل خان

4- سید رسول محرر FRP ڈیرہ اسماعیل خان

محمد وسیم کے بیان کے مطابق کنسٹیبل محمد احسن 2587 پر فائل نوٹس نمبر 148/HQ/26.11.8

کی تعمیل فیصلہ بلال نے بتاریخ 01.12.08 کی ہے۔ جس کیلئے محمد وسیم نے دستخط کیا ہے۔ بقول محمد وسیم کنسٹیبل مذکورہ اس کا چچا زاد ہے، تعمیل سے مطلع کر دیا ہے۔ لیکن ہم دھماکہ میں زخمی ہونے کی وجہ سے مزید ملازمت کرنے کیلئے

تیار نہیں ہے اور دیدہ دانستہ حاضر نہیں ہوتے۔

حاجی محمد صادق ولد سر فر از سنہ شہ جہان ناؤن کینٹ والد ازان کنشیل محمد احسن کا بیان لیا گیا ہے جس نے بتایا کہ پیراش بم دھماکہ میں زخمی ہوئے ملازمت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے وہی آثار اس کے ذہن پر بدستور موجود ہیں مزید دیدہ دانستہ حاضر نہیں ہوتا ہے۔

عبدالقیوم SRC کا بیان لیا گیا جس نے بتایا کہ کنشیل محمد احسن 2587 نے شوکارا در چارج شیٹ وصول کئے ہیں جن پر اس کے دستخط موجود ہیں لیکن تہ حال جواب داغ نہیں کیا ہے۔ 07.08.01 کو بھرتی شدہ ہے نرینگ کیلئے بھیجا گیا تھا لیکن ہسٹری شیٹ متعلقہ سنٹر سے موصول نہیں ہوا ہے بار بار اطلاع یابی کے باوجود ڈیوٹی پر حاضر نہیں آتا بم دھماکہ میں زخمی ہوا ہے بدیں وجہ ملازمت کیلئے تیار نہیں ہے۔

سید رسول محرر FRP لائن ڈیرہ اسماعیل خان کا بیان لیا گیا جس نے بتایا کہ کنشیل محمد احسن 2587 بحوالہ مد نمبر 6، روز نامہ 31.12.07 کو غیر حاضر ہوا بحوالہ مد نمبر 08 روز نامہ 08.04.01 کو حاضر آیا پھر بحوالہ مد نمبر 22 روز نامہ 08.04.09 غیر حاضر ہوا جو تاحال بدستور غیر حاضر ہے۔ فائل پر نقلہ مدت موجود ہیں۔

عالیجاہ! کنشیل محمد احسن 2587/FRP پوئیس لائن بم دھماکہ میں زخمی ہوا تھا اب صحت یاب ہوا ہے لیکن مزید ملازمت کیلئے تیار نہیں ہے بدیں وجہ بدستور غیر حاضر رہا ہے اس کی غیر حاضری بلا جواز ہے۔ گواہان کے بیانات سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ کنشیل مذکورہ کو بخوبی علم ہے کہ وہ غیر حاضر ہے۔ نہ تو جواب دے کر کوئی عذر پیش کیا ہے نہ ہی ملازمت کیلئے حاضر ہونے کی کوئی امید ہے۔

لہذا میری تجویز یہ ہے کہ دیدہ دانستہ غیر حاضری از مورخہ 31.12.07 تاحال بلا جواز پا کر بنا سزاوار کے ساتھ ہی مذکورہ ونگہ فورس سے علیحدہ کئے جانے کا حکم صادر فرمایا جاوے۔

(شہداء اللہ خان)

ڈی۔ ایس۔ پی سرگلسا پوڈا

Sir,

May issue final show cause notice

W/

7/5/09



(16)  
C  


**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

I, **ASIF JAN KHAN, Superintendent of Police, FRP, DIKhan**  
as competent authority under the NWFP, removal from service (Special Powers)  
Ordinance-2000 (Amendment 2005), do hereby served you  
**Constable Muhammad Ahsan No.2587/FRP**, as follow :-

Muhammad Ismail Aliz  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan

1. (i) That consequent upon the completion of enquiry conducted against you by the Enquiry Committee/ Officer for which you were given opportunity of hearing vide this office communicator No.1899-1900/ FRP, dated 29.10.2008.  
(ii) on going through the findings and recommendation of the enquiry officer, the material on record and other connected papers including your defence before the said committee.

I am satisfied that you have committed the following acts/omissions specified in section-3 of the said ordinance.

While Posted in FRP, Police Lines DIKhan, absented yourself from law-full duty with effect from 31.12.2007 to 1.04.2008, and similarly with effect from 9.4.2008 to till date with-out any leave or permission from your seniors.

This act on your part reflect lack of interest towards the performance of official duties, which is punishable under the rules.

2. As a result thereof, I **ASIF JAN KHAN, Superintendent of Police, FRP, DIKhan** as competent authority have tentatively decided to impose upon you the penalty of Major/ Minor punishment U/S 3 of the said ordinance.
3. You are, therefore, required to Show Cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you.
4. If no reply to this notice is received within 7-days of its deliver, in the normal course of circumstances. It shall be presumed that you have no defence to put in and in that case an exparte action shall be taken against you.
5. The copy of finding of the Enquiry Officer is enclosed.

  
**Superintendent of Police,  
FRP, DIKhan Range, DIKhan**  


D. (15)

Muhammad Iqbal  
Advocate  
Dera Ismael Khan

O R D E R.

This Order is aimed to dispose off the Departmental enquiry conducted against Constable Mohammad Ahsan No. 2587/FRP, on the charges that while he was Posted in FRP Police Lines DIKhan, he absented himself from law-full duties with effect from 31.12.2007 to 1.4.2008 and from 9.4.2008 to till date with-out any leave or permission.

The defaulter Constable was served with charge sheet/ Statement of allegation and an Enquiry was order to be conduct into the matter through Mr: Sana-Ullah Khan DSP/Prova, DIKhan. The Enquiry Officer in his finding stated that the defaulter Constable is found guilty of the charges leveled against him and also recommended him for major Punishment i.e removal from service and his absence period be treated as leave with-out pay. He was served with Final Show Cause Notice but he has not submitted the reply of said Final Show Cause uptill now.

In the light of above, I ASIF JAN KHAN, SUPERINTENDENT OF POLICE, FRP, DIKHAN RANGE, in exercise of Powers, Conferred upon me under the NWFP Removal from Service (Special Powers) Ord: 2000, amendment act-2005 award the defaulter Constable Mohammad Ahsan No. 2587/FRP, major Punishment of Removal from service from the date of absence i.e 9.4.2008 and his period of absence with effect from 31.12.2007 to 1.4.2008, is treated as leave with-out pay.

Superintendent of Police,  
FRP, DIKhan Range, DIKhan.

OB No. 3157/R4 ✓  
Dated. 23-5-2009.

بھنوز جناب والا شان انسپکٹر جنرل آف پولیس صاحب خیبر پختون خواہ پشاور

عنوان:- درخواست بحالی ملازمت (رحم کی اپیل)

جناب عالی!

1. گزارش بھنوز انوریہ ہے کہ میں محکمہ پولیس FRP میں سال 2007 میں بھرتی ہو کر فرائض سرانجام دے رہا تھا۔
  2. یہ کہ برائے مزید ناپ تول پولیس لائن ڈیرہ اسماعیل خان میں نزد OASI معہ دیگر عملہ موجود تھے۔ کہ اچانک پولیس لائن کے اندر زوردار دھماکہ ہو کر تقریباً سرکاری سطح پر 12 پولیس افسران شہید جبکہ 60 کے لگ بھگ شدید زخمی ہوئے۔ اور پرائیویٹ آنے والے لوگوں میں کافی زخمی ہوئے۔ جس کی FIR نمبر 341 مورخہ 15.7.07 جرم 302/324/353/7ATA/3Exp:/109 تپ تھا نہ کینٹ ریکارڈ پر موجود ہے۔
  3. اس دھماکہ میں اتنا دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا تھا۔ کہ اکثر مضر و مین دماغی سطح پر اوسان کھو بیٹھے۔ اور علاج معالجوں کے چکروں میں کئی ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ اور اکثر نوکری کے قابل نہ رہے۔
  4. جبکہ میں بھی انہی بد قسمت افراد میں تھا۔ کہ دھماکہ کی شدت سے ذہنی دباؤ، امراض کا شکار ہوا۔ اور علاج معالجہ کے چکروں میں PIMS ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج رہا۔ جسکی دستاویزی اسناد ہمراہ لف ہیں۔
  5. جونہی علاج معالجہ سے فارغ ہوا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ محکمہ والوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کے مجھے نوکری سے ختم کر ڈالا۔ جس سے میری ذہنی امراض میں مزید اضافہ ہو کر اب قدرے صحت یاب ہوا ہوں۔
  6. دوران محکمانہ کاروائی مجھے آگاہ تک نہ کیا گیا۔ اور نہ کوئی چارج شیٹ وغیرہ تقسیم ہوئی۔ اور نہ ہی باز پرس ہوئی۔ اور بلاوجہ بجائے حوصلہ افزائی یا تعریفی اسناد وغیرہ یا علاج معالجہ کی سہولت کے مجھے خواہ مخواہ ملازمت سے فارغ کر کے انتہائی ظلم عظیم ہوا ہے۔ جس کا ازالہ اسی درج شدہ اپیل کی صورت میں واضح ہو کر مزید نہ رہا ہے۔ مجھے اپنی ملازمت پر سابقہ مراعات کے ساتھ بحال فرمایا جائے۔
- عین ماتحت پروری ہوگی۔

نقطہ مورخہ 18.10.12

**العارض**

الحسن

ایکس کنسٹیبل محمد احسن نمبر 2587/FRP ڈیرہ اسماعیل خان

رابطہ نمبر: 0334-9138595

(17)

From: - The Addl: IGP/Commandant,  
Frontier Reserve Police  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.


To: - The Superintendent of Police FRP,  
DIKhan Range.

No. 1729 /EC dated Peshawar the. 06 / 03 /2013.

Subject: - APPEAL FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE

Memo: -

Enclosed please find herewith an appeal preferred by Ex-Constable Muhammad Ahsan No.2587 of your Range for re-instatement in service for Comments. His service record containing departmental enquiry file may also be provided to this office for disposal of his appeal.

  
08 06/03/2013  
For Addl: IGP/Commandant  
Frontier Reserve Police  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

  
6-3-2013

**ORDER**

This order shall dispose off on the appeal of Ex- Recruit Constable Muhammad Ihsan No. 2587 of FRP DI Khan Range against the order of SP FRP DI Khan Range.

Brief facts of the case are that he absented himself from duty with effect from 31.12.2007 to 01.04.2008 and from 09.04.2008 till the date of removal from service for a total period of 01 year 04 months & 14 days without any leave/permission of the competent authority. He was issued charge sheet/statement of allegation and DSP Sana Ullah of FRP DI Khan Range was nominated as Enquiry Officer. After enquiry, the Enquiry Officer submitted his finding and recommended the defaulter Constable for major punishment. He was issued show cause notice but he did not bother reply. Therefore, he was removed from service by SP FRP DI Khan Range from the date of absence i.e 09.04.2008. vide OB No. 315 dated 23.05.2009 while absence period 31.12.2007 to 01.04.2008 was treated as leave without pay.

However from the perusal of record and finding of Enquiry Officer there is no cogent reason to interfere in the order of SP FRP DI Khan Range. Therefore his appeal is rejected.

Addl: IGP/Commandant  
Frontier Reserve Police  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 2356-57 /BC dated Peshawar the 07 / 04 / 2013.

Copy of above is forwarded for information and necessary action to the:-

1. Superintendent of Police FRP DI Khan Range w/r to his Memo: No. 383 dated 19.03.2013. His service record and Departmental Enquiry File is returned herewith.
2. Ex-Recruit Constable Muhammad Ihsan No. 2587 s/o Mohammad Saddiq r/o Shah Jehan Shaheed Twon Saddar Bazar District DI Khan.

**Before The Service Tribunal, Khyber Pakhtun-khwa, Peshawar.**

Service Appeal No:....1080 /2012

Muhammad Ahsan, Ex-Constl: (Appellant)

Versus

IGP/PPO, KPK etc. (Respondents)

**Rejoinder to written statement.**

Respectfully, the appellant very humbly submits as under: -

**On Preliminary Objections:-**

Assertions made by the answering respondents from paras 1 to 6 are distinctively and collectively denied being incorrect, misconceived, against the law, without any substance or proof and an effort to colour the facts according to their own whims yet factually non-sustainable.

**On Factual Objections:-**

1. Needs no response.
2. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal besides law on the subject.
3. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
4. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal. The respondents however have failed to put forth any substance in support of their averment.
5. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal. The procedures adopted by the respondents were in sheer derogation of the prevailing law & rules.
6. Denied being factually and legally incorrect.
7. Denied being factually and legally incorrect.

**On Objections to Grounds:-**

- A. Denied being factually as well legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- B. Denied being factually and legally incorrect. The Tribunal may conveniently assess the high handedness of the respondents while dealing with the case of the appellant.
- C. Incorrect thus denied.
- D. Incorrect yet without any footings / sustenance on part of respondents. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.

- E. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- F. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- G. Denied being factually as well legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- H. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- I. Needs no comments.
- J. Needs no comments.


**PRAYER:**

In view of the facts and grounds, as mentioned above as well as in the main appeal, it is requested that by setting-aside the impugned orders of Respondents as prayed, declaring the same as illegal, void ab-initio, nullity in law and ultra-virus thus of no consequence on the rights of the appellant, to kindly reinstate the appellant in service with grant of all back benefits. Any other remedy deemed appropriate by the Hon`ble Tribunal in the circumstances of the matter is solicited, too.

Dated.. 31.....31 /2015.

Humbly,


Appellant,  
Through Counsel.

  
(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court


**Affidavit.**

I, Muhammad Ahsan, the appellant, affirm and declare on oath that contents of this rejoinder are true & correct to the best of my knowledge and belief and that nothing is willfully concealed or kept from the Tribunal.

Dated: 31.3.15



Deponent.



- E. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- F. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- G. Denied being factually as well legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- H. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- I. Needs no comments.
- J. Needs no comments.


**PRAYER:**

In view of the facts and grounds, as mentioned above as well as in the main appeal, it is requested that by setting-aside the impugned orders of Respondents as prayed, declaring the same as illegal, void ab-initio, nullity in law and ultra-virus thus of no consequence on the rights of the appellant, to kindly reinstate the appellant in service with grant of all back benefits. Any other remedy deemed appropriate by the Hon'ble Tribunal in the circumstances of the matter is solicited, too.

Dated.. 31..... 3 /2015.

Humbly,

Appellant,  
Through Counsel.


  
(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court

**Affidavit.**

I, Muhammad Ahsan, the appellant, affirm and declare on oath that contents of this rejoinder are true & correct to the best of my knowledge and belief and that nothing is willfully concealed or kept from the Tribunal.

Dated: 31.3.15

Deponent.

  
A vertical line is drawn from the signature down to the bottom of the page, serving as a signature line for the deponent.



**Before The Service Tribunal, Khyber Pakhtun-khwa, Peshawar.**  
Service Appeal No: ...1080 /2012

Muhammiad Ahsan, Ex-Constl: (Appellant)  
Versus  
IGP/PPC, KPK etc. (Respondents)

**Rejoinder to written statement.**

Respectfully, the appellant very humbly submits as under: -

**On Preliminary Objections:-**

Assertions made by the answering respondents from paras 1 to 6 are distinctively and collectively denied being incorrect, misconceived, against the law, without any substance or proof and an effort to colour the facts according to their own whims yet factually non-sustainable.


**On Factual Objections:-**

1. Needs no response.
2. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal besides law on the subject.
3. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
4. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal. The respondents however have failed to put forth any substance in support of their averment.
5. Denied being factually and legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal. The procedures adopted by the respondents were in sheer derogation of the prevailing law & rules.
6. Denied being factually and legally incorrect.
7. Denied being factually and legally incorrect.

**On Objections to Grounds:-**

- A. Denied being factually as well legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- B. Denied being factually and legally incorrect. The Tribunal may conveniently assess the high handedness of the respondents while dealing with the case of the appellant.
- C. Incorrect thus denied.
- D. Incorrect yet without any footings / sustenance on part of respondents. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.

# وکالت نامہ



بعد ازاں جناب سرورین کورٹ فیڈریشن

منجانب ایس ایف ایف

گھرانہ بنام

دعویٰ یا جرم

تفصیل دعویٰ یا جرم SA 10 — D/2013

## باعث تحریر آئنگے

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجوہات سے پیشی یا تصفیہ مقدمہ کے مقام پر آئیے کیلئے

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختیار خاص دور و عدالت حاضر ہوتا ہوں گا اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کا اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہوں اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بعد از قسطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بعد از قسطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بعد از قسطیل یا پکھری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عینانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر دانستہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی اپیل و جرم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کسی حکم یا ڈگری کرنے اور جرم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور جرم کے بیان دینے اور اس پر تاشی یا راضی نامہ دینے پر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل و جرم نامہ و برآمدگی مقدمہ یا منسوخ ڈگری یا طرف یا درخواست حکم استغاثی یا ترقی یا اگر ترقی نکل از فیصلہ اجراءے ڈگری بھی صاحب موصوف کو شرط ادا تکلیف علیحدہ مختص بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر دانستہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کاروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا جرم نامہ یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی اور سے وکیل یا بعد از شراکاء سے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائزہ انجام دینا ہوگا، وہ صاحب موصوف لاحق ہوگا مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

مورخہ 27 مارچ 2013

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

Acceptd  
 Muhammad Farid Ali  
 Ad. 100/100/100  
 Dara 100/100/100

- E. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- F. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- G. Denied being factually as well legally incorrect. The appellant relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- H. Incorrect thus denied. The appellant also relies on his averments made in corresponding para of his appeal.
- I. Needs no comments.
- J. Needs no comments.


**PRAYER:**

In view of the facts and grounds, as mentioned above as well as in the main appeal, it is requested that by setting-aside the impugned orders of Respondents as prayed, declaring the same as illegal, void ab-initio, nullity in law and ultra-virus thus of no consequence on the rights of the appellant, to kindly reinstate the appellant in service with grant of all back benefits. Any other remedy deemed appropriate by the Hon'ble Tribunal in the circumstances of the matter is solicited, too.

Dated.. 31..... 3.. /2015.

Humbly,

Appellant,  
Through Counsel.


  
(Muhammad Ismail Alizai)  
Advocate High Court

**Affidavit.**

I, Muhammad Ahsan, the appellant, affirm and declare on oath that contents of this rejoinder are true & correct to the best of my knowledge and belief and that nothing is willfully concealed or kept from the Tribunal.

Dated: 31.3.15

Deponent.

  
31/3

